

4 اکتوبر 2018

## آپ ووٹ دینے کو فضول سمجھتے ہیں؟ دوبارہ سوچیے۔

برامپٹن، آن - سڑکیں، پارکس، پبلک ٹرانزٹ، ایمرجنسی سروسز، تفریح گاہیں، لائبریریاں... ان میں سے اگر کوئی بھی چیز آپ کے لیے اہم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ووٹ اہم ہے۔ یہ ایک دلچسپ ویڈیو "[It Counts. You Count.](#)" کا ایک مرکزی پیغام ہے۔ جس کو سٹی آف برامپٹن نے ریلیز کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اہل ووٹ دہندگان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مورخہ 22 اکتوبر 2018 کو باہر نکلیں اور میونسپل الیکشن میں اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔

پیٹر فے، سٹی کلرک اور برامپٹن میونسپل الیکشن 2018 کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ "سٹی سروسز اور پروگراموں کے ساتھ لوگوں کا تعلق ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مقامی حکومت میں اپنی آواز اٹھانے کے لیے ووٹ ایک انتہائی اہم طریقہ کار ہے۔" پچھلے سال سٹی کی استعمال ہونے والی کچھ سروسز اور پروگراموں میں شامل تھے: عمر رسیدہ افراد کی جانب سے کیے جانے والے 1.2 ملین سفر اور نوجوانوں کی جانب سے کیے جانے والے 3.4 ملین سفر؛ بچوں کے تفریحی پروگراموں میں 124,900 اندراج؛ برامپٹن لائبریری سے ادھار لی گئی 4 ملین اشیاء اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے موصول شدہ 24,320 ایمرجنسی کالیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ "جب آپ اپنے میئر، کونسلر اور اسکول بورڈ ٹرسٹی کے لیے ووٹ دیتے ہیں، تو آپ ان پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے روزمرہ کے اہم معاملات کے حوالے سے فیصلے کریں۔"

اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ووٹ دہندگان میں ووٹ ڈالنے کی شرح، عمر کے دیگر گروپس کے لوگوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے، یعنی تقریباً 21 فیصد۔ مزید معلومات اس [data story](#) میں دستیاب ہے۔

سابقہ انتخابات میں ووٹ دہندگان کو ایک مخصوص جگہ پر جا کر ووٹ ڈالنا پڑتا تھا، جبکہ ان انتخابات کے دوران سٹی آف برامپٹن نے "اپنے وارڈ میں موجود کسی بھی جگہ سے ووٹ ڈالیں" کی سہولت متعارف کروائی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے رہائشی وارڈ کے اندر موجود 10 - 15 مقامات میں سے کسی پر بھی جا کر ووٹ دینے کی سہولت میسر ہو گی۔ شہر کی ویب سائٹ پر موجود [interactive map](#) ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کی مرضی کی جگہ ڈھونڈنے میں مدد کرے گا۔ فے نے مزید کہا کہ "جب آپ کسی کام سے جا رہے ہوں، کام سے واپسی پر، کھیلنے یا عبادت کرنے جا رہے ہوں یا کہیں سے واپس آ رہے ہوں - تو چند منٹ نکال کر ووٹ دے دیں۔ یہ عمل برامپٹن کے مستقبل کو بنانے میں دیرپا کردار ادا کر سکتا ہے۔"

جو لوگ پہلے ووٹ دینا چاہتے ہوں، وہ یہ کام ایڈوانس ووٹنگ کی مندرجہ ذیل تاریخوں پر کر سکتے ہیں:

بروز ہفتہ 6 اکتوبر اور بروز ہفتہ 13 اکتوبر، صبح 10 سے شام 5 بجے تک

- برامپٹن سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو  
(Brampton City Hall, 2 Wellington St W)
- برامپٹن ساکر سنٹر، 1495 سینڈل ووڈ پارک وے ای  
(Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E)
- کیسی کیمپبل کمیونٹی سنٹر 1050 سینڈل ووڈ پارک وے ڈبلیو  
(Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W)
- سنچری گارڈنز ریکریٹیشن سنٹر، 340 ووڈن اسٹریٹ ای  
(Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E)
- ڈیوڈ سوزوکی سیکنڈری اسکول، 45 ڈیویسلیم ڈرائیو  
(David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr)
- ارنزکلف ریکریٹیشن سنٹر، 44 ایسٹ بورن ڈرائیو  
(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr)

- گور میڈوز کمیونٹی سنٹر، 10150 دی گور میڈوز روڈ  
(Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd)
- گرین برائر ری کریئیشن سنٹر، 1100 سنٹرل پارک ڈرائیو  
(Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr)
- جم آرچ ڈیکن ریکریئیشن سنٹر، 292 کونیستوگا ڈرائیو  
(Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr)
- ساؤتھ فلیچر اسپورٹسپلیکس، 500 رے لاء سن بولیورڈ  
(South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd)

**منگل تا جمعرات، 9-11 اکتوبر، صبح 8:30 تا شام 8 بجے تک**

- سوک سنٹر، 150 سنٹرل پارک ڈرائیو  
(Civic Centre, 150 Central Park Dr)

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654